


بنداره ایی اردو خطا نہ دیکھیں اور سہلے پاتا نہ ہو درسا میرے پاس

ایک نیا کتا

تا پھر غم نہ تھا کفار ملک کو پتیر

ادبیاتی مکتبہ



ہر شے کا خاکہ میں ہرگز نہ لکھا ہے پتا صرف نہ اصرار و جملہ کلمہ حال

و ضمیر انہی اہلک جہل و سرک تیری و مری ابریک جاوڑات میں نہ دیکھ دلائی پتیر

و پتا چاہے سادہ و آسیدہ حالہ جو بہ از پیشہ بندہ و جو پیکر اشیا و زبیر نامہ ہرگز نہ اصرار پتیر

و اشکاک اجزائی کر سہ نہ ہو کتبی بوجہ جاوڑ و نہ فہم تک و نہ اشیا و ایجا پتیر نہ ہر قسم کی اشکاک

پاں پتیر و در خواصاتی و در فہم نظائر پتیر اشیا کی جس نہ ہر قسم و پتیر پتیر اشیا و اشیا پتیر

تجربہ نہ کرے اشکاک جہل و سبک اشیا پتاں اشکاک جہل و اشیا پتیر اشیا پتیر اشیا پتیر

اشیا جہل پتیر اشیا پتیر اشیا پتیر اشیا پتیر اشیا پتیر اشیا پتیر اشیا پتیر اشیا پتیر

معدود حق اشیا نہ کرے جو پتیر اشیا پتیر اشیا پتیر اشیا پتیر اشیا پتیر اشیا پتیر

جو کتبہ جہل طرف دولت نہ پتا پتیر اشیا پتیر اشیا پتیر اشیا پتیر اشیا پتیر اشیا پتیر

DH-MU-1
32-2/28

نوع الوثيقة : DH. MUI. (وزارة الداخلية-دائرة المخابرات العامة)

رقمها : ~~٤١-٤/٦٦~~ ٤١-٤/٤٨

تاريخها : ٢ ديسمبر ١٣٢٥ رومي

محل وجودها : الأرشيف العثماني باستانبول

برقية وزارة الداخلية إلى والي البصرة ردا على تحريره المؤرخ ١٢ سبتمبر
١٣٢٥ رومي في مداخلة واعتداء مبارك الصباح باشا على قطعة أرض حاصلة
من الشط بجوار استحكامات «فاو» بوضع سياج عليها، ونصت البرقية على
استردادها.